

27 اگست 2018

سٹی آف برامپٹن میں لیبر ڈے 2018

برامپٹن سٹی ہال لیبر ڈے کے سلسلے میں بروز پیر مورخہ 3 ستمبر کو بند رہے گا۔ شہر کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران شادی کے لائسنسوں، غلط پارکنگ پر جرمانے بھرنے اور پرمٹس کے لیے خود تشریف لا کر درخواستیں نہیں دے سکیں گے۔ آن لائن انتخابات کے لیے، برائے مہربانی www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور بائی لاء انفورسمنٹ۔ سٹی آف برامپٹن کی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 311 پر کال کریں یا brampton.ca ملاحظہ کریں۔

لیبر ڈے کے ویکینڈ پر برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈول:

- جمعہ، 31 اگست: ویک ڈے کی ریگولر سروس
- ہفتہ، 1 ستمبر: ریگولر سیچر ڈے سروس
- اتوار، 2 ستمبر: ریگولر سنڈے/ہالیڈے سروس
- پیر، 3 ستمبر: سنڈے/ہالیڈے سروس

ٹرانزٹ اسٹور پیر، مورخہ 3 ستمبر کو بند رہیں گے۔

راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے 905.874.2999 پر کال کریں یا bramptontransit.com ملاحظہ کریں اور بسوں کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے اپنے موبائل سے nextride.brampton.ca پر جائیں۔

پارکس اور تفریحی سہولت گاہیں

سوک ہالیڈے ویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہولیات کھلی رہیں گی۔ پروگرام کے شیڈول کی تصدیق کے لیے، برائے مہربانی اپنے مقامی تفریحی مرکز کو فون کریں، 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔ برائے کرم نوٹ کریں کہ پروفیسرز لیک اور الڈوریڈو پول میں اسپرے پیڈز، ویڈنگ پولز (wading pools) اور تیراکی سے لطف اندوز ہونے کے لیے لیبر ڈے آخری ویکینڈ ہو گا۔

شہر کا ریکریٹیشن ایڈمنسٹریشن آفس پیر، مورخہ 3 ستمبر کو بند رہے گا۔

فائر ورکس کی سیفٹی

لیبر ڈے کے موقع پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے آتش بازی کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی جا رہی۔ لیبر ڈے کا شمار سال کے ان چار دنوں میں نہیں ہوتا جن کے دوران سٹی آف برامپٹن میں ذاتی حیثیت میں آتش بازی کی اجازت ہوتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے 311 پر کال کریں یا brampton.ca/bylaws ملاحظہ کریں۔

برامپٹن لائبریری

برامپٹن میں لائبریریوں کی تمام شاخیں (سوک سنٹر میں موجود چنگواکوسی، سائرنل کلارک، فور کارنرز، گور میڈوز، ماؤنٹ پلیزینٹ ویلج، اسپرنگ ڈیل اور ساؤتھ فلیچرز) 3 ستمبر کو لیبر ڈے کے سلسلے میں بند رہیں گی۔ مزید معلومات کے لیے 905.793.4636 یا 311 پر کال کریں یا bramptonlibrary.ca ملاحظہ فرمائیں۔